

232335- نماز میں تشہد کی دعا

سوال

میں آخری تشہد میں ”السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین“ کہنے کی بجائے ”السلام علیک وعلیٰ عباد اللہ الصالحین“ کہتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟

پسندیدہ جواب

اول:

آخری تشہد نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جبکہ پہلا تشہد نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، جیسے کہ ہم اس کی تفصیلات پہلے سوال نمبر: (65847) اور (125897) میں ذکر کر آئے ہیں۔

دوم:

مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے اور نماز کے علاوہ شرعی اذکار کے الفاظ کو اچھی طرح یاد کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان میں تبدیلی نہ کرے۔

جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: (مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جیسے مجھے آپ قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اس دوران میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی) اس حدیث کو امام بخاری: (6265) اور مسلم: (402) نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ: تشہد سکھاتے ہوئے آپ نے خصوصی اہتمام فرمایا، چنانچہ ان الفاظ میں نہ تو کوئی کمی کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اضافہ، اسی طرح تشہد کے الفاظ میں تبدیلی بھی نہیں کی جاسکتی، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم کو سکھاتے ہوئے اہتمام کیا جاتا ہے۔

اس بنا پر نماز پڑھنے والا شخص ”السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین“ کہنے کی بجائے ”السلام علیک وعلیٰ عباد اللہ الصالحین“ نہیں کہہ سکتا؛ کیونکہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے ہوئے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں اور معنی بھی بدل جاتا ہے۔

اس لیے آپ کے لئے نصیحت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول الفاظ ہی پڑھیں، اور ہمارے علم کے مطابق نماز کی کیفیت، الفاظ، دعاؤں اور ثابت شدہ اذکار کے متعلق بہترین کتاب البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا عربی نام: ”صفتہ صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے، آپ اسے لیں اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں۔

[آپ اس کتاب کا اردو ترجمہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں [کلیک](#) کریں۔ مترجم]

واللہ اعلم